

## ARABIC VERB CONJUGATOR

نَفَع  
يَنْفَع

## Benefit

VERBAL NOUN (MASDAR)

نَفْعًا

نفع پہنچانا

Root: ن ف ع

PAST نَفَع اس نے نفع پہنچایا	PRESENT يَنْفَعُ وہ نفع پہنچاتا ہے	MASDAR نَفْعًا نفع پہنچانا	ISM FA'IL نَافِعٌ نفع پہنچانے والا	ISM MAFOOL مَنْفُوعٌ جسے نفع پہنچایا
------------------------------------	--	----------------------------------	--	--

## PAST TENSE

الماضي

الضمير	الفعل	الضمير	ترجمہ
هُوَ	نَفَعَّ	وہ (ایک مرد)	اس ایک مرد نے نفع پہنچایا
هُمَا	نَفَعَا	وہ (دو مرد)	ان دو مردوں نے نفع پہنچایا
هُمْ	نَفَعُوا	وہ (سب مرد)	ان سب مردوں نے نفع پہنچایا
هِيَ	نَفَعَتْ	وہ (ایک عورت)	اس ایک عورت نے نفع پہنچایا
هُمَا	نَفَعَتَا	وہ (دو عورتیں)	ان دو عورتوں نے نفع پہنچایا
هِنَّ	نَفَعْنَ	وہ (سب عورتیں)	ان سب عورتوں نے نفع پہنچایا
أَنْتَ	نَفَعْتَ	تم (ایک مرد)	تم ایک مرد نے نفع پہنچایا
أَنْتَما	نَفَعْتُمَا	تم (دو مرد/عورتیں)	تم دونوں نے نفع پہنچایا
أَنْتُمْ	نَفَعْتُمْ	تم (سب مرد)	تم سب مردوں نے نفع پہنچایا
أَنْتِ	نَفَعْتِ	تم (ایک عورت)	تم ایک عورت نے نفع پہنچایا
أَنْتِما	نَفَعْتُمَا	تم (دو عورتیں)	تم دونوں عورتوں نے نفع پہنچایا
أَنْتِنَّ	نَفَعْتِنَّ	تم (سب عورتیں)	تم سب عورتوں نے نفع پہنچایا
أَنَا	نَفَعْتُ	میں	میں نے نفع پہنچایا
نَحْنُ	نَفَعْنَا	ہم	ہم نے نفع پہنچایا

## PRESENT / FUTURE

المضارع

الضمير	الفعل	الضمير	ترجمہ
هُوَ	يَنْفَعُ	وہ (ایک مرد)	وہ ایک مرد نفع پہنچاتا ہے
هُمَا	يَنْفَعَانِ	وہ (دو مرد)	وہ دو مرد نفع پہنچاتے ہیں
هُمْ	يَنْفَعُونَ	وہ (سب مرد)	وہ سب مرد نفع پہنچاتے ہیں

ترجمہ	ضمیر	الفعل	الضمیر
وہ ایک عورت نفع پہنچاتی ہے	وہ (ایک عورت)	تَنْفَعُ	هِيَ
وہ دو عورتیں نفع پہنچاتی ہیں	وہ (دو عورتیں)	تَنْفَعَانِ	هُمَا
وہ سب عورتیں نفع پہنچاتی ہیں	وہ (سب عورتیں)	يَنْفَعْنَ	هُنَّ
تم ایک مرد نفع پہنچاتے ہو	تم (ایک مرد)	تَنْفَعُ	أَنْتَ
تم دونوں نفع پہنچاتے ہو	تم (دو مرد/عورتیں)	تَنْفَعَانِ	أَنْتُمَا
تم سب مرد نفع پہنچاتے ہو	تم (سب مرد)	تَنْفَعُونَ	أَنْتُمْ
تم ایک عورت نفع پہنچاتی ہو	تم (ایک عورت)	تَنْفَعِينَ	أَنْتِ
تم دونوں عورتیں نفع پہنچاتی ہو	تم (دو عورتیں)	تَنْفَعَانِ	أَنْتُمَا
تم سب عورتیں نفع پہنچاتی ہو	تم (سب عورتیں)	يَنْفَعْنَ	أَنْتُنَّ
میں نفع پہنچاتا/پہنچاتی ہوں	میں	أَنْفَعُ	أَنَا
ہم نفع پہنچاتے ہیں	ہم	نَنْفَعُ	نَحْنُ

## IMPERATIVE

## الأمر والنهي

POSITIVE	الأمر	NEGATIVE	النهي
الضمیر	الفعل	الضمیر	الفعل
تم نفع پہنچاؤ (مذکر واحد)	أَنْفَعْ	أَنْتَ	لَا تَنْفَعْ
تم دونوں نفع پہنچاؤ	أَنْفَعَا	أَنْتُمَا	لَا تَنْفَعَا
تم سب نفع پہنچاؤ (مذکر جمع)	أَنْفَعُوا	أَنْتُمْ	لَا تَنْفَعُوا
تم نفع پہنچاؤ (مؤنث واحد)	أَنْفَعِي	أَنْتِ	لَا تَنْفَعِي
تم دونوں نفع پہنچاؤ (مؤنث)	أَنْفَعَا	أَنْتُمَا	لَا تَنْفَعَا
تم سب نفع پہنچاؤ (مؤنث جمع)	أَنْفَعْنَ	أَنْتُنَّ	لَا يَنْفَعْنَ

## الجدول الإسنادي — الماضي

## RELATIONAL MAPPING — PAST

هو		وه (ایک مرد)
نِي	نَفَعَنِي	اس نے مجھے نفع پہنچایا
نَا	نَفَعَنَا	اس نے ہمیں نفع پہنچایا
كَ	نَفَعَكَ	اس نے تمہیں (ایک مرد) نفع پہنچایا
كُمَا	نَفَعَكُمَا	اس نے تم دونوں کو نفع پہنچایا
كُم	نَفَعَكُمْ	اس نے تم سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
كَ	نَفَعَكَ	اس نے تمہیں (ایک عورت) نفع پہنچایا
كُنَّ	نَفَعَكُنَّ	اس نے تم سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا
هُ	نَفَعَهُ	اس نے اسے (ایک مرد) نفع پہنچایا
هُمَا	نَفَعَهُمَا	اس نے ان دونوں کو نفع پہنچایا
هُمْ	نَفَعَهُمْ	اس نے ان سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
هَا	نَفَعَهَا	اس نے اسے (ایک عورت) نفع پہنچایا
هُمَا	نَفَعَهُمَا	اس نے ان دونوں عورتوں کو نفع پہنچایا
هِنَّ	نَفَعَهُنَّ	اس نے ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا

هيأ (مذكر)		وه (دو مرد)
نِي	نَفَعَانِي	ان دو مردوں نے مجھے نفع پہنچایا
نَا	نَفَعَانَا	ان دو مردوں نے ہمیں نفع پہنچایا
كَ	نَفَعَاكَ	ان دو مردوں نے تمہیں (ایک مرد) نفع پہنچایا
كُمَا	نَفَعَاكُمَا	ان دو مردوں نے تم دونوں کو نفع پہنچایا
كُم	نَفَعَاكُمْ	ان دو مردوں نے تم سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
كَ	نَفَعَاكَ	ان دو مردوں نے تمہیں (ایک عورت) نفع پہنچایا
كُنَّ	نَفَعَاكُنَّ	ان دو مردوں نے تم سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا
هُ	نَفَعَاهُ	ان دو مردوں نے اسے (ایک مرد) نفع پہنچایا
هُمَا	نَفَعَاهُمَا	ان دو مردوں نے ان دونوں کو نفع پہنچایا
هُمْ	نَفَعَاهُمْ	ان دو مردوں نے ان سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
هَا	نَفَعَاهَا	ان دو مردوں نے اسے (ایک عورت) نفع پہنچایا
هِنَّ	نَفَعَاهُنَّ	ان دو مردوں نے ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا

ہم	وہ (سب مرد)
نِی	ان سب مردوں نے مجھے نفع پہنچایا
نَا	ان سب مردوں نے ہمیں نفع پہنچایا
ک	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک مرد) نفع پہنچایا
کَا	ان سب مردوں نے تم دونوں کو نفع پہنچایا
کُم	ان سب مردوں نے تم سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
کِ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک عورت) نفع پہنچایا
کُنَّ	ان سب مردوں نے تم سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا
ہ	ان سب مردوں نے اسے (ایک مرد) نفع پہنچایا
ہَا	ان سب مردوں نے ان دونوں کو نفع پہنچایا
ہُم	ان سب مردوں نے ان سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
ہَا	ان سب مردوں نے اسے (ایک عورت) نفع پہنچایا
ہُنَّ	ان سب مردوں نے ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا

ہی	وہ (ایک عورت)
نِی	اس ایک عورت نے مجھے نفع پہنچایا
نَا	اس ایک عورت نے ہمیں نفع پہنچایا
ک	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک مرد) نفع پہنچایا
کَا	اس ایک عورت نے تم دونوں کو نفع پہنچایا
کُم	اس ایک عورت نے تم سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
کِ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک عورت) نفع پہنچایا
کُنَّ	اس ایک عورت نے تم سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا
ہ	اس ایک عورت نے اسے (ایک مرد) نفع پہنچایا
ہَا	اس ایک عورت نے ان دونوں کو نفع پہنچایا
ہُم	اس ایک عورت نے ان سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
ہَا	اس ایک عورت نے اسے (ایک عورت) نفع پہنچایا
ہُنَّ	اس ایک عورت نے ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	نَفَعْتَانِی	ان دو عورتوں نے مجھے نفع پہنچایا
نَا	نَفَعْتَانَا	ان دو عورتوں نے ہمیں نفع پہنچایا
ک	نَفَعْتَاكَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) نفع پہنچایا
کَا	نَفَعْتَاکَا	ان دو عورتوں نے تم دونوں کو نفع پہنچایا
کُر	نَفَعْتَاکُر	ان دو عورتوں نے تم سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
ک	نَفَعْتَاکِ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) نفع پہنچایا
کُن	نَفَعْتَاکُن	ان دو عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا
ہ	نَفَعْتَاهُ	ان دو عورتوں نے اسے (ایک مرد) نفع پہنچایا
ہَا	نَفَعْتَاهَا	ان دو عورتوں نے ان دونوں کو نفع پہنچایا
ہم	نَفَعْتَاهُم	ان دو عورتوں نے ان سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
ہَا	نَفَعْتَاهَا	ان دو عورتوں نے اسے (ایک عورت) نفع پہنچایا
ہن	نَفَعْتَاهُن	ان دو عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	نَفَعْنِی	ان سب عورتوں نے مجھے نفع پہنچایا
نَا	نَفَعْنَا	ان سب عورتوں نے ہمیں نفع پہنچایا
ک	نَفَعْنَاکَ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) نفع پہنچایا
کَا	نَفَعْنَاکَا	ان سب عورتوں نے تم دونوں کو نفع پہنچایا
کُر	نَفَعْنَاکُر	ان سب عورتوں نے تم سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
ک	نَفَعْنَاکِ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) نفع پہنچایا
کُن	نَفَعْنَاکُن	ان سب عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا
ہ	نَفَعْنَاهُ	ان سب عورتوں نے اسے (ایک مرد) نفع پہنچایا
ہَا	نَفَعْنَاهَا	ان سب عورتوں نے ان دونوں کو نفع پہنچایا
ہم	نَفَعْنَاهُم	ان سب عورتوں نے ان سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
ہَا	نَفَعْنَاهَا	ان سب عورتوں نے اسے (ایک عورت) نفع پہنچایا
ہن	نَفَعْنَاهُن	ان سب عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا

تم (ایک مرد)	أنت
تم (ایک مرد) نے مجھے نفع پہنچایا	نَفَعْتَنِي
تم (ایک مرد) نے ہمیں نفع پہنچایا	نَفَعْتَنَا
تم (ایک مرد) نے اسے (ایک مرد) نفع پہنچایا	نَفَعْتَهُ
تم (ایک مرد) نے ان دونوں کو نفع پہنچایا	نَفَعْتَهُمَا
تم (ایک مرد) نے ان سب (مردوں) کو نفع پہنچایا	نَفَعْتَهُمْ
تم (ایک مرد) نے اسے (ایک عورت) نفع پہنچایا	نَفَعْتَهَا
تم (ایک مرد) نے ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا	نَفَعْتَهُنَّ

تم دونوں (مرد/عورت)	أنتما
تم دونوں نے مجھے نفع پہنچایا	نَفَعْتُمَا نِي
تم دونوں نے ہمیں نفع پہنچایا	نَفَعْتُمَا نَا
تم دونوں نے اسے (ایک مرد) نفع پہنچایا	نَفَعْتُمَا هُ
تم دونوں نے ان دونوں کو نفع پہنچایا	نَفَعْتُمَا هُمَا
تم دونوں نے ان سب (مردوں) کو نفع پہنچایا	نَفَعْتُمَا هُمْ
تم دونوں نے اسے (ایک عورت) نفع پہنچایا	نَفَعْتُمَا هَا
تم دونوں نے ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا	نَفَعْتُمَا هُنَّ

تم سب (مرد)	أنتم
تم سب (مردوں) نے مجھے نفع پہنچایا	نَفَعْتُمُونِي
تم سب (مردوں) نے ہمیں نفع پہنچایا	نَفَعْتُمُونَا
تم سب (مردوں) نے اسے (ایک مرد) نفع پہنچایا	نَفَعْتُمُوهُ
تم سب (مردوں) نے ان دونوں کو نفع پہنچایا	نَفَعْتُمُوهُمَا
تم سب (مردوں) نے ان سب (مردوں) کو نفع پہنچایا	نَفَعْتُمُوهُمْ
تم سب (مردوں) نے اسے (ایک عورت) نفع پہنچایا	نَفَعْتُمُوَهَا
تم سب (مردوں) نے ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا	نَفَعْتُمُوَهُنَّ

تم (ایک عورت)	أنتِ
تم (ایک عورت) نے مجھے نفع پہنچایا	نَفَعْتَنِي
تم (ایک عورت) نے ہمیں نفع پہنچایا	نَفَعْتَنَا
تم (ایک عورت) نے اسے (ایک مرد) نفع پہنچایا	نَفَعْتَهُ
تم (ایک عورت) نے ان دونوں کو نفع پہنچایا	نَفَعْتَهُمَا
تم (ایک عورت) نے ان سب (مردوں) کو نفع پہنچایا	نَفَعْتَهُمْ
تم (ایک عورت) نے اسے (ایک عورت) نفع پہنچایا	نَفَعْتَهَا
تم (ایک عورت) نے ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا	نَفَعْتَهُنَّ

انتن	تم سب (عورتیں)
نِي	تم سب (عورتوں) نے مجھے نفع پہنچایا
نَا	تم سب (عورتوں) نے ہمیں نفع پہنچایا
هُ	تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک مرد) نفع پہنچایا
هُمَا	تم سب (عورتوں) نے ان دونوں کو نفع پہنچایا
هُم	تم سب (عورتوں) نے ان سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
هَا	تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک عورت) نفع پہنچایا
هُنَّ	تم سب (عورتوں) نے ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا

اَنَا	میں
كَ	میں نے تمہیں (ایک مرد) نفع پہنچایا
كُمَا	میں نے تم دونوں کو نفع پہنچایا
كُمُ	میں نے تم سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
كَ	میں نے تمہیں (ایک عورت) نفع پہنچایا
كُنَّ	میں نے تم سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا
هُ	میں نے اسے (ایک مرد) نفع پہنچایا
هُمَا	میں نے ان دونوں کو نفع پہنچایا
هُم	میں نے ان سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
هَا	میں نے اسے (ایک عورت) نفع پہنچایا
هُنَّ	میں نے ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا

نَحْنُ	ہم
كَ	ہم نے تمہیں (ایک مرد) نفع پہنچایا
كُمَا	ہم نے تم دونوں کو نفع پہنچایا
كُمُ	ہم نے تم سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
كَ	ہم نے تمہیں (ایک عورت) نفع پہنچایا
كُنَّ	ہم نے تم سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا
هُ	ہم نے اسے (ایک مرد) نفع پہنچایا
هُمَا	ہم نے ان دونوں کو نفع پہنچایا
هُم	ہم نے ان سب (مردوں) کو نفع پہنچایا
هَا	ہم نے اسے (ایک عورت) نفع پہنچایا
هُنَّ	ہم نے ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچایا

## الجدول الإسنادي — المضارع

## RELATIONAL MAPPING — PRESENT

هو		وہ (ایک مرد)
نِي	يَنْفَعُنِي	وہ مجھے نفع پہنچاتا ہے
نَا	يَنْفَعُنَا	وہ ہمیں نفع پہنچاتا ہے
كَ	يَنْفَعُكَ	وہ تمہیں (ایک مرد) نفع پہنچاتا ہے
كُمَا	يَنْفَعُكُمَا	وہ تم دونوں کو نفع پہنچاتا ہے
كُم	يَنْفَعُكُمْ	وہ تم سب (مردوں) کو نفع پہنچاتا ہے
كَ	يَنْفَعُكَ	وہ تمہیں (ایک عورت) نفع پہنچاتا ہے
كُنَّ	يَنْفَعُنَّ	وہ تم سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتا ہے
ه	يَنْفَعُهُ	وہ اسے (ایک مرد) نفع پہنچاتا ہے
هُمَا	يَنْفَعُهُمَا	وہ ان دونوں کو نفع پہنچاتا ہے
هُمْ	يَنْفَعُهُمْ	وہ ان سب (مردوں) کو نفع پہنچاتا ہے
هَا	يَنْفَعُهَا	وہ اسے (ایک عورت) نفع پہنچاتا ہے
هُمَا	يَنْفَعُهُمَا	وہ ان دونوں عورتوں کو نفع پہنچاتا ہے
هِنَّ	يَنْفَعُهُنَّ	وہ ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتا ہے

ہیٰ (مذکر)		وہ (دو مرد)
نِي	يَنْفَعَانِي	وہ دو مرد مجھے نفع پہنچاتے ہیں
نَا	يَنْفَعَانَا	وہ دو مرد ہمیں نفع پہنچاتے ہیں
كَ	يَنْفَعَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک مرد) نفع پہنچاتے ہیں
كُمَا	يَنْفَعَاكُمَا	وہ دو مرد تم دونوں کو نفع پہنچاتے ہیں
كُم	يَنْفَعَاكُمْ	وہ دو مرد تم سب (مردوں) کو نفع پہنچاتے ہیں
كَ	يَنْفَعَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک عورت) نفع پہنچاتے ہیں
كُنَّ	يَنْفَعَاكُنَّ	وہ دو مرد تم سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتے ہیں
ه	يَنْفَعَاهُ	وہ دو مرد اسے (ایک مرد) نفع پہنچاتے ہیں
هُمَا	يَنْفَعَاهُمَا	وہ دو مرد ان دونوں کو نفع پہنچاتے ہیں
هُمْ	يَنْفَعَاهُمْ	وہ دو مرد ان سب (مردوں) کو نفع پہنچاتے ہیں
هَا	يَنْفَعَاهَا	وہ دو مرد اسے (ایک عورت) نفع پہنچاتے ہیں
هِنَّ	يَنْفَعَاهُنَّ	وہ دو مرد ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتے ہیں

ہم		وہ (سب مرد)
نِیْ	یَنْفَعُونِیْ	وہ سب مرد مجھے نفع پہنچاتے ہیں
نَا	یَنْفَعُونَا	وہ سب مرد ہمیں نفع پہنچاتے ہیں
کَ	یَنْفَعُوكَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک مرد) نفع پہنچاتے ہیں
کَمَا	یَنْفَعُوكَمَا	وہ سب مرد تم دونوں کو نفع پہنچاتے ہیں
کُمْ	یَنْفَعُوکُمْ	وہ سب مرد تم سب (مردوں) کو نفع پہنچاتے ہیں
کَ	یَنْفَعُوكَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک عورت) نفع پہنچاتے ہیں
کُنَّ	یَنْفَعُوکُنَّ	وہ سب مرد تم سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتے ہیں
ہُ	یَنْفَعُوهُ	وہ سب مرد اسے (ایک مرد) نفع پہنچاتے ہیں
ہُمَا	یَنْفَعُوهُمَا	وہ سب مرد ان دونوں کو نفع پہنچاتے ہیں
ہُمْ	یَنْفَعُوهُمْ	وہ سب مرد ان سب (مردوں) کو نفع پہنچاتے ہیں
ہَا	یَنْفَعُوهَا	وہ سب مرد اسے (ایک عورت) نفع پہنچاتے ہیں
ہُنَّ	یَنْفَعُوهُنَّ	وہ سب مرد ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتے ہیں

ہیْ		وہ (ایک عورت)
نِیْ	تَنْفَعُنِیْ	وہ ایک عورت مجھے نفع پہنچاتی ہے
نَا	تَنْفَعُنَا	وہ ایک عورت ہمیں نفع پہنچاتی ہے
کَ	تَنْفَعُكَ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک مرد) نفع پہنچاتی ہے
کَمَا	تَنْفَعُکَمَا	وہ ایک عورت تم دونوں کو نفع پہنچاتی ہے
کُمْ	تَنْفَعُکُمْ	وہ ایک عورت تم سب (مردوں) کو نفع پہنچاتی ہے
کَ	تَنْفَعُكَ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک عورت) نفع پہنچاتی ہے
کُنَّ	تَنْفَعُکُنَّ	وہ ایک عورت تم سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتی ہے
ہُ	تَنْفَعُهَا	وہ ایک عورت اسے (ایک مرد) نفع پہنچاتی ہے
ہُمَا	تَنْفَعُہُمَا	وہ ایک عورت ان دونوں کو نفع پہنچاتی ہے
ہُمْ	تَنْفَعُہُمْ	وہ ایک عورت ان سب (مردوں) کو نفع پہنچاتی ہے
ہَا	تَنْفَعُهَا	وہ ایک عورت اسے (ایک عورت) نفع پہنچاتی ہے
ہُنَّ	تَنْفَعُہُنَّ	وہ ایک عورت ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتی ہے

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	تَنْفَعَانِی	وہ دو عورتیں مجھے نفع پہنچاتی ہیں
نَا	تَنْفَعَانَا	وہ دو عورتیں ہمیں نفع پہنچاتی ہیں
ک	تَنْفَعَاکَ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک مرد) نفع پہنچاتی ہیں
کَا	تَنْفَعَاکَا	وہ دو عورتیں تم دونوں کو نفع پہنچاتی ہیں
کُر	تَنْفَعَاکُر	وہ دو عورتیں تم سب (مردوں) کو نفع پہنچاتی ہیں
ک	تَنْفَعَاکَ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک عورت) نفع پہنچاتی ہیں
کُن	تَنْفَعَاکُن	وہ دو عورتیں تم سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتی ہیں
ہ	تَنْفَعَاہُ	وہ دو عورتیں اسے (ایک مرد) نفع پہنچاتی ہیں
ہمَا	تَنْفَعَاہُمَا	وہ دو عورتیں ان دونوں کو نفع پہنچاتی ہیں
ہم	تَنْفَعَاہُمْ	وہ دو عورتیں ان سب (مردوں) کو نفع پہنچاتی ہیں
ہَا	تَنْفَعَاہَا	وہ دو عورتیں اسے (ایک عورت) نفع پہنچاتی ہیں
ہن	تَنْفَعَاہُنَّ	وہ دو عورتیں ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتی ہیں

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	یَنْفَعْنِی	وہ سب عورتیں مجھے نفع پہنچاتی ہیں
نَا	یَنْفَعْنَا	وہ سب عورتیں ہمیں نفع پہنچاتی ہیں
ک	یَنْفَعْنِکَ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک مرد) نفع پہنچاتی ہیں
کَا	یَنْفَعْنِکَا	وہ سب عورتیں تم دونوں کو نفع پہنچاتی ہیں
کُر	یَنْفَعْنِکُر	وہ سب عورتیں تم سب (مردوں) کو نفع پہنچاتی ہیں
ک	یَنْفَعْنِکَ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک عورت) نفع پہنچاتی ہیں
کُن	یَنْفَعْنِکُن	وہ سب عورتیں تم سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتی ہیں
ہ	یَنْفَعْنِہُ	وہ سب عورتیں اسے (ایک مرد) نفع پہنچاتی ہیں
ہمَا	یَنْفَعْنِہُمَا	وہ سب عورتیں ان دونوں کو نفع پہنچاتی ہیں
ہم	یَنْفَعْنِہُمْ	وہ سب عورتیں ان سب (مردوں) کو نفع پہنچاتی ہیں
ہَا	یَنْفَعْنِہَا	وہ سب عورتیں اسے (ایک عورت) نفع پہنچاتی ہیں
ہن	یَنْفَعْنِہُنَّ	وہ سب عورتیں ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتی ہیں

أَنْتَ	تَمَّ (ایک مرد)
نِي	تَمَّ (ایک مرد) مجھے نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعُنِي
نَا	تَمَّ (ایک مرد) ہمیں نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعُنَا
هُ	تَمَّ (ایک مرد) اسے (ایک مرد) نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعُهُ
هُمَا	تَمَّ (ایک مرد) ان دونوں کو نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعُهُمَا
هُمْ	تَمَّ (ایک مرد) ان سب (مردوں) کو نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعُهُمْ
هَا	تَمَّ (ایک مرد) اسے (ایک عورت) نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعُهَا
هِنَّ	تَمَّ (ایک مرد) ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعُهُنَّ

أَنْتَ	تَمَّ (مرد/عورت)
نِي	تَمَّ دونوں مجھے نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعَانِي
نَا	تَمَّ دونوں ہمیں نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعَانَا
هُ	تَمَّ دونوں اسے (ایک مرد) نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعَاهُ
هُمَا	تَمَّ دونوں ان دونوں کو نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعَاهُمَا
هُمْ	تَمَّ دونوں ان سب (مردوں) کو نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعَاهُمْ
هَا	تَمَّ دونوں اسے (ایک عورت) نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعَاهَا
هِنَّ	تَمَّ دونوں ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعَاهِنَّ

أَنْتُمْ	تَمَّ سب (مرد)
نِي	تَمَّ سب (مرد) مجھے نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعُونِي
نَا	تَمَّ سب (مرد) ہمیں نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعُونَا
هُ	تَمَّ سب (مرد) اسے (ایک مرد) نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعُوهُ
هُمَا	تَمَّ سب (مرد) ان دونوں کو نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعُوهُمَا
هُمْ	تَمَّ سب (مرد) ان سب (مردوں) کو نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعُوهُمْ
هَا	تَمَّ سب (مرد) اسے (ایک عورت) نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعُوهَا
هِنَّ	تَمَّ سب (مرد) ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتے ہو تَنْفَعُوهُنَّ

أَنْتِ	تَمَّ (ایک عورت)
نِي	تَمَّ (ایک عورت) مجھے نفع پہنچاتی ہو تَنْفَعِينِي
نَا	تَمَّ (ایک عورت) ہمیں نفع پہنچاتی ہو تَنْفَعِينَا
هُ	تَمَّ (ایک عورت) اسے (ایک مرد) نفع پہنچاتی ہو تَنْفَعِيهِ
هُمَا	تَمَّ (ایک عورت) ان دونوں کو نفع پہنچاتی ہو تَنْفَعِيَهُمَا
هُمْ	تَمَّ (ایک عورت) ان سب (مردوں) کو نفع پہنچاتی ہو تَنْفَعِيَهُمْ
هَا	تَمَّ (ایک عورت) اسے (ایک عورت) نفع پہنچاتی ہو تَنْفَعِيَهَا
هِنَّ	تَمَّ (ایک عورت) ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتی ہو تَنْفَعِيَهُنَّ

انتن	تم سب (عورتیں)
نِي	تم سب (عورتیں) مجھے نفع پہنچاتی ہو
نَا	تم سب (عورتیں) ہمیں نفع پہنچاتی ہو
هُ	تم سب (عورتیں) اسے (ایک مرد) نفع پہنچاتی ہو
هُمَا	تم سب (عورتیں) ان دونوں کو نفع پہنچاتی ہو
هُم	تم سب (عورتیں) ان سب (مردوں) کو نفع پہنچاتی ہو
هَا	تم سب (عورتیں) اسے (ایک عورت) نفع پہنچاتی ہو
هُنَّ	تم سب (عورتیں) ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتی ہو

اَنَا	میں
كَ	میں تمہیں (ایک مرد) نفع پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
كُنَا	میں تم دونوں کو نفع پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
كُمُ	میں تم سب (مردوں) کو نفع پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
كِ	میں تمہیں (ایک عورت) نفع پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
كُنَّ	میں تم سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
هُ	میں اسے (ایک مرد) نفع پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
هُمَا	میں ان دونوں کو نفع پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
هُم	میں ان سب (مردوں) کو نفع پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
هَا	میں اسے (ایک عورت) نفع پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
هُنَّ	میں ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتا/پہنچاتی ہوں

نَحْنُ	ہم
كَ	ہم تمہیں (ایک مرد) نفع پہنچاتے ہیں
كُنَا	ہم تم دونوں کو نفع پہنچاتے ہیں
كُمُ	ہم تم سب (مردوں) کو نفع پہنچاتے ہیں
كِ	ہم تمہیں (ایک عورت) نفع پہنچاتے ہیں
كُنَّ	ہم تم سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتے ہیں
هُ	ہم اسے (ایک مرد) نفع پہنچاتے ہیں
هُمَا	ہم ان دونوں کو نفع پہنچاتے ہیں
هُم	ہم ان سب (مردوں) کو نفع پہنچاتے ہیں
هَا	ہم اسے (ایک عورت) نفع پہنچاتے ہیں
هُنَّ	ہم ان سب (عورتوں) کو نفع پہنچاتے ہیں

## USAGE EXAMPLES — PAST

## مثالیں — ماضی

I

أَنَا نَفَعْتُ جِيرَانِي بِمَا عَلَّمَنِي اللَّهُ.  
میں نے اپنے پڑوسیوں کو وہ فائدہ پہنچایا جو اللہ نے مجھے سکھایا۔

I benefited my neighbors with what Allah taught me.

We

نَحْنُ نَفَعْنَا الْمَجْتَمَعَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ.  
ہم نے اللہ کی طرف دعوت سے معاشرے کو نفع پہنچایا۔

We benefited society through calling towards Allah.

You (m)

أَنْتَ نَفَعْتَ النَّاسَ بِعِلْمِكَ وَحِكْمَتِكَ.  
تم نے لوگوں کو اپنے علم اور حکمت سے نفع پہنچایا۔

You benefited people with your knowledge and wisdom.

You (f)

أَنْتِ نَفَعْتِ أُمَّتَكَ بِتَعْلِيمِ الْبَنَاتِ.  
تم نے لڑکیوں کی تعلیم سے اپنی امت کو نفع پہنچایا۔

You benefited your nation by educating girls.

He

هُوَ نَفَعَ الْمُسْلِمِينَ بِتَأْلِيفِ كُتُبٍ فِي الْعَقِيدَةِ.  
اس نے عقیدے کی کتابیں تالیف کر کے مسلمانوں کو نفع پہنچایا۔

He benefited the Muslims by authoring books on creed.

She

هِيَ نَفَعَتْ أَوْلَادَهَا بِرَبِّيتِهِمْ عَلَى الْقُرْآنِ.  
اس نے اپنے بچوں کی قرآن پر تربیت کر کے انہیں نفع پہنچایا۔

She benefited her children by raising them upon the Quran.

They two

هُمَا نَفَعَا الطُّلَّابَ بِشَرْحِ الدَّرُوسِ بِوَضُوحٍ.  
ان دونوں نے اسباق واضح طریقے سے بیان کر کے طلباء کو نفع پہنچایا۔

They both benefited the students by explaining lessons clearly.

They (m)

هُمْ نَفَعُوا الْفُقَرَاءَ بِالصَّدَقَاتِ وَالزَّكَاةِ.  
انہوں نے صدقات اور زکاۃ سے فقیروں کو نفع پہنچایا۔

They benefited the poor with charity and zakat.

You all (m)

أَنْتُمْ نَفَعْتُمْ الْأُمَّةَ بِنَشْرِ السُّنَّةِ.  
تم نے سنت کی نشر سے امت کو نفع پہنچایا۔

You all benefited the Ummah by spreading the Sunnah.

They (f)

هُنَّ نَفَعْنَ أَخَوَاتِهِنَّ بِتَعْلِيمِ أَحْكَامِ الدِّينِ.  
انہوں نے دین کے احکام سکھا کر اپنی بہنوں کو نفع پہنچایا۔

They benefited their sisters by teaching the rulings of the religion.

## USAGE EXAMPLES — PRESENT

## مثالیں — مضارع

I

أَنَا أَنْفَعُ النَّاسَ بِمَا أَسْتَطِيعُ مِنَ الْخَيْرِ.  
میں جہاں تک ہو سکے نیکی سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہوں۔

I benefit people with whatever good I can.

We

نَحْنُ نَنْفَعُ الْمُسْلِمِينَ بِالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ.  
ہم نیکی میں تعاون کر کے مسلمانوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔

We benefit Muslims through cooperation in righteousness.

You (m)

أَنْتَ تَنْفَعُ أُمَّتَكَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ.  
تم توحید کی دعوت سے اپنی امت کو نفع پہنچاتے ہو۔

You benefit your Ummah by calling to monotheism.

You (f)

أَنْتِ تَنْفَعِينَ بَنَاتِكَ بِتَعْلِيمِهِنَّ الْقُرْآنَ.  
تم اپنی بیٹیوں کو قرآن سکھا کر نفع پہنچاتی ہو۔

You benefit your daughters by teaching them the Quran.

He

هُوَ يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ عِلْمَهُ النَّافِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.  
قیامت کے دن انسان کو نافع علم فائدہ دیتا ہے۔

Beneficial knowledge benefits a person on the Day of Judgment.

She

هِيَ تَنْفَعُ جِيرَانَهَا بِالنَّصِيحَةِ وَالْمَعْرُوفِ.  
وہ نصیحت اور نیکی سے اپنے پڑوسیوں کو نفع پہنچاتی ہے۔

She benefits her neighbors with advice and good deeds.

They two

هُمَا يَنْفَعَانِ الْمَجْتَمَعَ بِالْعَمَلِ الْخَيْرِيِّ.  
وہ دونوں فلاحی کام سے معاشرے کو نفع پہنچاتے ہیں۔

They both benefit society through charitable work.

They (m)

هُمْ يَنْفَعُونَ النَّاسَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ.  
وہ مساجد اور مدارس بنا کر لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔

They benefit people by building mosques and schools.

You all (m)

أَنْتُمْ تَنْفَعُونَ الْأُمَّةَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ وَنَشْرِهِ.  
تم علم حاصل کر کے اور پھیلا کر امت کو نفع پہنچاتے ہو۔

You all benefit the Ummah by seeking and spreading knowledge.

They (f)

هِنَّ يَنْفَعْنَ أَسْرَهُنَّ بِحَسَنِ التَّدْيِيرِ وَالرِّعَايَةِ.  
وہ اچھی تدبیر اور دیکھ بھال سے اپنے خاندانوں کو نفع پہنچاتی ہیں۔

They benefit their families with good management and care.

## VOCABULARY

## المفردات

النَّفْعُ

نفع / فائدہ

benefit / profit

النَّافِعُ

نفع دینے والا

beneficial / the Benefactor

الْمَنْفَعَةُ

فائدہ / مصلحت

advantage / interest

الْمَعْرُوفُ

نیکی / بھلائی

good deed / favour

الْصَّدَقَةُ

صدقہ

voluntary charity

الْبِرُّ

نیکی

righteousness

التَّعَاوُنُ

تعاون

cooperation

الدَّعْوَةُ

دعوت

invitation / calling

النَّشْرُ

نشر / پھیلانا

spreading / publishing

الْعَمَلُ الْخَيْرِيُّ

فلاحی کام

charitable work

الْمَدَارِسُ

مدارس

schools

التَّدْيِيرُ

تدبیر

management / planning

الرِّعَايَةُ

دیکھ بھال

care / looking after

الْعِلْمُ النَّافِعُ

نافع علم

beneficial knowledge

الْأُسْرَةُ

خاندان

family